

SWACHHATA HI SEWA: A CLEANLINESS DRIVE ON 2ND OCT, 2018

On the eve of Gandhi Jayanti, Bandra West witnessed the Gandhian ideology being practiced by young students, pre-service teachers and their mentors. As a part of the on-going Swachh Bharat Abhiyan, an intensive cleanliness drive 'SWACHHATA HI SEWA' was jointly organised by Awami Educational Institutions and Rizvi College of Education, a befitting tribute to Mahatma Gandhi on his birth Anniversary. Student of Rizvi College of Education and Awami school and Junior college students held Swachhata hi Sewa rally in Awami Junior college surrounding and speeded the message of cleanliness to the society. Followings are the glimpse of the program: Swachhata Hi Sewa: A Cleanliness Drive On 2nd Oct, 2018



Tuesday, October 02, 2018

سوچھتا ہی سیوا ہے

انہا تدرہ میں بیداری ہم، رضوی فی ایڈ کالج اور ماس میڈیا کے طلباء نے جلوس نکالا



مکتبہ سے نکلتے ہیں۔ ہمارے اطراف کڑکڑوں میں پانی بھاری پھرتا ہے جس میں ڈیکو اور پٹرینا کے گھس پھسے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر اور مکتبہ میں صفائی کا عمل خیال رکھنا چاہیے۔ ان سرگرمیوں سے بچوں کے کمرے صفائی صاف ایمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اوپر مکتبہ کی صفائی کے ساتھ ہمیں اپنے گرو اور مکتبہ کی بھی صفائی ضروری ہے۔ مہمان خصوصی اور مہمان نامی این بی او کے کیمپ کو مدد کرنے والے طلباء ہی کو سنبھالنے اور ان کی۔

مکتبہ (این این بی) بائیرہ مغرب میں آج صبح اسکول گیا۔ نئے موسم میں صفائی کے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک جلوس نکالا۔ اس جلوس کی قیادت موسم و مظہر انوس ایجنٹ کے کوآرڈینیٹر ان سرگرمیوں اور ان کے ساتھی کر رہے تھے۔ جلوس میں بائیرہ ایجنٹ، ویسٹ وارڈ کے آئی ٹی ٹی ٹی اور رضوی کالج فی ایڈ کے پرنسپل ایمان پرکاش آریہ، مہمان خصوصی اور اسکول پرنسپل رضوی شیخ کے ساتھ بڑی تعداد میں مہمانی اور اسکول و کالج کے طلباء شامل تھے۔ اسکے علاوہ رضوی کالج فی ایڈ اور رضوی کالج ماس میڈیا کے طلباء ہماری تعداد میں شریک تھے۔ طلباء نے بیٹر اور بیٹر کارڈ باکسوں میں اظہار کے تھے۔ جس پر کاغذی بی کی تصویر بنائی اور سوچھتا ہی سیوا صفائی صاف ایمان ہے۔ اور مختلف طرح کی کٹی مہار میں صفائی کے متعلق کئی کئی۔ یہ جلوس بائیرہ مہمانی اور اسکول سے ہونے والے جامع سہولہ بائیرہ ایجنٹ مندرجہ ذیل مہمانوں کی ہمراہ بائیرہ ایجنٹ مہمانی اور اسکول سے ہونے والے بائیرہ مہمانی اسکول میں منعقد ہوا۔ جس میں صفائی کی بیداری پیدا کرنے کے لیے اسکول میں بی ایڈ کے مہمان کا افتتاح کیا گیا تھا۔ بائیرہ مغرب کے ایجنٹ وارڈ کے آئی ٹی ٹی ٹی اور اسکول سے ہونے والے بائیرہ مہمانی کی شروعات اپنے گھر اور

RIZVI COLLEGE OF EDUCATION

Date: 26.09.2018

NOTICE

The college in collaboration with Awami School & Jr. College, Bandra (west) is organizing a cleanliness drive, as part of Government's "Swachhata Hi Seva" movement, on the 01st of October 2018 a befitting tribute to Mahatma Gandhi on his birth anniversary. With a great mission of ensuring a cleaner and healthier future of our nation we take up Shramdaan activities on the day. All staff and students are informed to participate in the event whole heartedly.

Venue: Awami School and Junior College, Bandra (west)
Reporting time: 10.30 am

For:

Mr. Gyanprakash Arya
I/c Principal

Staff In charge

Mrs. Spoty Karthik

Mrs. Nahida Mandviwala



Rizvi Education Society's
Rizvi College of Education



Awami Urdu High School
A.R.S. Awami English School (Bandra W)
Awami Junior College of Arts & Commerce


Organises
SWACHHATA HI SEVA
DRAWING COMPETITION CERTIFICATE

from _____ school / college

has secured _____ position in the drawing competition held on 1st October, 2018.

Mr. Gyanprakash Arya
I/c Principal,
Rizvi College of Education

Al-Nasser Zakaria
Co-ordinator,
Awami Welfare Association,
Maharashtra



MENTAL HEALTH AWARENESS CAMP AT RIZVI ARTS, SCIENCE AND COMMERCE -2018 OCTOBER

On 10th October 2018, marking the occasion of World Mental Health Day, Rizvi College of Education arranged a remarkable event, consisting of varied activities to emphasize mental fitness of individuals, especially adolescents at large. This was in tune with the World Health Organisation's Mental Health Awareness Day 2018 theme, "Young People and Mental Health in a Changing World". The event had many activities aimed at mental wellness.

- **Emoji Activity - Check your mood –** A Smiley activity where the students express their mood using emoticons.
- **Stress Screening Test –** A short test to identify the stress level of the test takers.
- **Counselling Sessions –** Based on the above stress screening the students are referred for further counseling sessions in the college or other counseling clinics.

The counseling sessions were conducted by Dr. Trupti Barchha, Mrs. Spoty Karthik, Dr. Priyanka Pandey and Dr. Rakhi Sawlane. For spreading awareness, posters depicting the significance of mental health and the need of removing the stigma associated with mental ailments were displayed throughout the venue.

